


# دُرود شریف کے مسائل



دار السلام للنشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تأليف  
محمد اقبال کیلانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

\*\*\* توجہ فرمائیں! \*\*\*

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\*

**تنبیہ**

\*\*\*

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر

تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

[webmaster@kitabosunnat.com](mailto:webmaster@kitabosunnat.com)

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

٦

تفہیم السنۃ

کتاب الصلّٰة علی النبی ﷺ

# دُرُود شریف کے مسائل

تألیف

محمد اقبال کیلانی



دار السلام للنشر

الریاض - المملکة العربیة السعودیة

اشاعت کے جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

نام کتاب : درود شریف کے مسائل  
مولف : محمد اقبال کیلانی بن مولانا حافظ محمد اور لیس کیلانی رحمہ اللہ  
کمپوزنگ : ہارون الرشید، خالد محمود کیلانی  
زیر اہتمام : عبدالمالک مجاہد  
طبع اول تا چارم : ۱۹۸۶ء تا ۱۹۹۳ء  
طبع پنجم : اپریل ۱۹۹۶ء رزوالقعدہ ۱۴۱۶ھ  
مقام اشاعت : الرياض سعودی عرب

## مکتبۃ دار السلام للنشر والتوزيع الدولي

شارع امیر عبدالعزیز بن جلوی (سابقہ الضباب سٹریٹ)  
ص-ب ۲۲۷۳۳ الرياض ۱۱۴۱۶  
سعودی عرب  
فون ۳۰۳۳۹۶۲ فیکس ۳۰۲۱۶۵۹

ح) مکتبۃ دار السلام للنشر ، ۱۴۱۶ھ

فہرستہ مکتبۃ الملك فهد الوطنية أثناء النشر

کیلانی ، محمد اقبال

کتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .. الرياض

... ص ؟ . . . سم

ردمك ۳-۷۷-۷۴۰-۹۹۶

النص باللغة الاردية

۱ - الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ۲ - الادعية والاوراد


أ - العنوان

۱۶/۳۲۴۲

ديوي ۲۱۲،۹۳

## الفہرس

صفحہ نمبر	نام ابواب	اسماء الابواب	نمبر شمار
۱۵	بسم اللہ الرحمن الرحیم	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	۱
۲۵	درود شریف کا مطلب	مَعْنَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ	۲
۲۶	تمام انبیاء پر درود بھیجنے کا حکم	الصَّلَاةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ	۳
۲۷	درود شریف کی فضیلت	فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ	۴
۳۳	درود شریف کی اہمیت	أَهْمِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ	۵
۳۷	درود شریف کے مسنون الفاظ	الصَّلَاةُ الْمَسْنُونَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ	۶
۴۵	درود شریف پڑھنے کے مواقع	مَوَاطِنُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ	۷
۵۲	درود شریف کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث	الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ وَالْمَوْضُوعَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.	۸



عن انس رضي الله عنه  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ  
يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَلَدِهِ  
وَوَالِدِهِ وَالْأَسْرَىٰ أَجْمَعِينَ

(رواه احمد و البخاري و المسلم  
و الترمذي و النسائي و ابن ماجه)


حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا،

جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں

مجھ سے زیادہ محبت نہ کرنا ہو۔“


(اسے احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے)



وَأَحْسَنُ نِكَاحٍ لَمْ تَرَوْهُ عَيْنًا  
وَأَجْمَلُ نِكَاحٍ لَمْ تَلِدِ السَّامِعُ  
خُلِقَتْ مَبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ  
فَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا نَسَأُ

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا  
تجھ سے زیادہ صابِ جمال کبھی کسی عورت نے نہیں جانا  
تُوہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے  
جیسے تُو اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوا ہے



## الوجه الطيب

قالت أم معبد: رضي الله عنها

«رَأَيْتُ رَجُلًا

ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ، أَبْلَجَ الْوَجْهِ، حُسْنَ الْخُلُقِ،

لَمْ تَعْبُهُ نَجَلَةٌ، وَلَمْ تُزْرِهِ صَعْلَةٌ، وَسِيمٌ قَسِيمٌ،

فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطْفٌ،

وَفِي صَوْتِهِ صَهْلٌ وَفِي عُنُقِهِ سَطْعٌ، وَفِي لِحْيَتِهِ كَنَانَةٌ أَرْحٌ أَقْرَنُ،

إِنْ صَمَتَ فَعَلِيهِ الْوَقَارُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ،

أَجْمَلُ النَّاسِ وَأَبْهَاءُ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ،

حُلُوُ الْمَنْطِقِ فَضْلًا لَأَنْزَرُ وَلَا هَزْرٌ، كَانَ مَنْطِقُهُ خَرَزَاتٍ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ،

رَبْعَةً، لَا تَشْنَأُهُ مِنْ طَوْلٍ وَلَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قَصْرِ،

عُصْنٌ بَيْنَ عُصْنَيْنِ، فَهُوَ أَنْضَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا،


لَهُ رُفَقَاءٌ يَحْفُونُ بِهِ،

إِنْ قَالَ سَمِعُوا لِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ،

مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ،

لَا عَابِسٌ وَلَا مُفَنِّدٌ»

{ رواه الحاكم عن حزام بن هشام عن ابيه هشام بن حبيب ابن خويلد رضي الله عنهم }





## حلیہ مبارک

ام معبد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں :

میں نے ایک آدمی دیکھا۔

روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق

متوازن پیٹ، سر کے بال بہ تمام و کمال، مجسم حسن و جمال

چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں

رعب دار آواز، لمبی گردن، گھنی ڈاڑھی، باریک اور پستہ ابرو۔

خاموش پروقار، گفتگو لولوے لالہ۔

دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور بارونق، قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین و جمیل

شیریں کلام، سچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی۔

میانہ قد۔ نہ طویل القامت کہ اچھا نہ لگے، نہ کوتاہ قد کہ معیوب ہو۔

شگفتہ و تروتازہ شاخ، خوش منظر، قابل قدر۔


رفقاء ایسے کہ ہر دم گرد و پیش۔

کچھ کہے تو خاموشی سے سین، حکم دے تو تعمیل کے لئے جھپٹیں۔

مخدوم و مطاع

نہ ترش رو، نہ فضول گو۔


(اسے حاکم نے مستدرک (۲/۹) میں حزام بن ہشام سے روایت کیا ہے۔)



## سلسلہ نسب

حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر (قریش) بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادوین ہمیص بن سلامان بن عوص بن بوزین قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طانخ بن جام بن ناحش بن ماخی بن عیسیٰ بن عقبہ بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سبز بن یثرب بن سحر بن یطحن بن ارعوی بن عیسیٰ بن ذیشان بن عیصر بن افتاد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سکی بن مزنی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن تارہ (آزر) بن ناحور بن سروج بن رعو بن قانج بن عابر بن ارکشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لاک بن نوتوشاخ بن اختوع ادریس علیہ السلام بن یارد بن ملہل ایل بن قینان بن آئوش بن شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔

(رحمتہ اللعالمین۔ جلد دوم، ص ۲۵ تا ۳۱۔ از قاضی محمد سلیمان منصور پوری)



# حیات طیبہ

## ایک نظر میں

واقعات	تاریخ
واقعہ فیل کے ۵۰ یا ۵۵ روز بعد ۲۲ اپریل ۶۵۷ء بمطابق ۹ ربیع الاول موسم بہار میں بروز سوموار چار بج کر بیس منٹ پر مکہ مکرمہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔	۲۲ اپریل ۶۵۷ء
قبیلہ بنو سعد کے ہاں چوتھے یا پانچویں سال شق صدر (سینہ چاک کئے جانے) کا پہلا واقعہ پیش آیا۔	۳ یا ۵ میلاد النبی ﷺ
۶ سال کی عمر میں والدہ انتقال کر گئیں۔	۶ میلاد النبی ﷺ
حلف الفضول (ایک اصلاحی انجمن) میں شرکت فرمائی۔	۱۶ میلاد النبی ﷺ
۲۵ سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔	۲۵ میلاد النبی ﷺ
۳۵ سال کی عمر میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران حجر اسود نصب کرنے کا حکیمانہ فیصلہ کر کے شہر مکہ کو خانہ جنگی سے بچایا۔	۳۵ میلاد النبی ﷺ
چالیس سال چھ مہینے بارہ دن کی عمر مبارک میں ۱۰ اگست ۶۱۰ء مطابق ۲۱ رمضان المبارک بروز پیر جناب جبریل علیہ السلام غار حرا میں پہلی وحی لے کر تشریف لائے۔	۴۱ میلاد النبی ﷺ
ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔	۶ نبوت
۷ سال کی عمر میں شعب ابی طالب میں قید و بند کی آزمائش شروع ہوئی۔	۷ نبوت

- ۱۰ نبوت  
شعب ابی طالب کی اسیری ختم ہوئی۔ حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہما سے نکاح ہوا نیز سفر طائف اختیار فرمایا۔
- ۱۱ نبوت  
مدینہ منورہ کے پہلے چھ خوش نصیب افراد ایمان لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے بلا رخصتی نکاح ہوا۔
- ۱۲ نبوت  
شق صدر کا دوسرا واقعہ اور معراج نیز بیعت عقبہ ثانیہ کے اہم واقعات پیش آئے۔
- ۱۳ نبوت یا پہلی ہجری  
۲۶ صفر کو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اجتماعی منصوبہ طے کیا۔ ۲۷ صفر مطابق ۱۳ ستمبر ۶۲۲ء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لئے مکہ کو الوداع کہا۔ ۱۲ ربیع الاول ۲۷ ستمبر ۶۲۲ء بروز جمعۃ المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے نزول اجلال فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی رخصتی عمل میں آئی۔
- ۲ ہجری  
غزوہ ابواء، غزوہ بواط، غزوہ سفوان یا بدر اولیٰ، غزوہ ذی العشیرہ، غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ السویق، اور غزوہ بنو سلیم جیسے اہم غزوات پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیسری ناکام کوشش کی گئی۔
- ۳ ہجری  
غزوہ غطفان، غزوہ نجران، غزوہ احد اور غزوہ حراء الاسد پیش آئے۔ نیز حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔
- ۴ ہجری  
حادثہ رجیع اور بیئر معونہ کے علاوہ بنو نضیر اور غزوہ بدر الاخریٰ پیش آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ نیز حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما کا انتقال فرما گئیں۔

- ۵ ہجری غزوہ دومہ الجندل، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ احزاب یا خندق، غزوہ بنو قریظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان (اٹک) کے واقعات پیش آئے۔ نیز حضرت زینب بنت جحش اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما سے نکاح ہوا۔
- ۶ ہجری غزوہ عرینین اور صلح حدیبیہ کے واقعات پیش آئے۔ نیز حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما سے نکاح ہوا۔
- ۷ ہجری بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط تحریر فرمائے۔ غزوہ غابہ، غزوہ خیبر، غزوہ وادی القریہ، غزوہ ذات الرقاع پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر کھلانے کی کوشش کی گئی۔ نیز حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ قضا کیا۔
- ۸ ہجری غزوہ موتہ، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین یا (ہوازن) اور غزوہ طائف کے واقعات پیش آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔
- ۹ ہجری دوسرے غیر ملکی غزوہ تبوک کی مہم پیش آئی، زنا کا اقرار کرنے والی عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ مختلف وفود قبولِ اسلام کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔
- ۱۰ ہجری حجۃ الوداع ادا فرمایا۔
- ۱۱ ہجری ۲۹ صفر بروز پیر مرض وفات کا آغاز ہوا۔ ۱۲ ربیع الاول بروز پیر بوقت چاشت ۶۳ سال چار دن کی عمر میں روح پاک قفسِ عصری سے پرواز کر گئی۔
- ۱۳ ربیع الاول بروز بدھ رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں تدفین عمل میں آئی۔

## ازواجِ مطہراتِ رضی اللہ عنہن

نام مع ولدیت	ازدواجی حیثیت	تاریخ نکاح	عمر وقت نکاح	رسول اکرم ﷺ کی عمر وقت نکاح	تاریخ وفات	کل عمر	مدت رفاقت
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد	بیوہ	۲۵ میلاد النبی	۲۰ سال	۲۵ سال	۶۵ھ	۶۵ھ	۲۵ سال
حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بنت زمعہ	”	۶۰ھ	۵۰ھ	۵۰ھ	۱۹ھ	۷۲ھ	۱۳ھ
حضرت عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا	کنواری	۶ھ	۹ھ	۵۲ھ	۵۷ھ	۶۳ھ	۹ھ
حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا	بیوہ	۳ھ	۲۲ھ	۵۵ھ	۴۱ھ	۵۹ھ	۸ھ
حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ	”	۳ھ	۳۰ھ	۵۵ھ	۳۰ھ	۳۰ھ	۳ ماہ
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بنت ابوامیہ	”	۴ھ	۵۴ھ	۵۶ھ	۶۰ھ	۸۰ھ	۷ سال
حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش	مطلقہ	۵ھ	۳۶ھ	۵۷ھ	۲۵ھ	۵۱ھ	۶ھ
حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بنت حارث	بیوہ	۵ھ	۳۰ھ	۵۷ھ	۵۶ھ	۷۱ھ	۶ھ
حضرت ام حبیبہ بنت ابوسقیان رضی اللہ عنہا	”	۶ھ	۳۶ھ	۵۸ھ	۴۴ھ	۷۳ھ	۶ھ
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی ابن اخطب	”	۷ھ	۱۷ھ	۵۹ھ	۵۰ھ	۵۰ھ	۳ سال ۵ ماہ ۹
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث	”	۷ھ	۳۶ھ	۵۹ھ	۵۱ھ	۸۰ھ	۳ سال ۵ ماہ ۳

### وضاحت :

۱- بیک وقت زیادہ سے زیادہ ۹ ازواجِ مطہرات حرم میں رہیں۔

۲- ۵ ہجری میں حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا بنت شمعون بطور لونڈی حرم نبوی میں شامل ہوئیں۔

۳- ۶ ہجری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو بطور لونڈی اپنے حرم میں شامل فرمایا۔

## ذَرِيَّة طَاهِرَة

☆ بیٹے :

- ۱- حضرت قاسم رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پائی۔
  - ۲- حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ طیب و طاہر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پائی۔
  - ۳- حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پائی۔
- وضاحت : طیب و طاہر دونوں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لقب ہیں۔

☆ بیٹیاں :

- ۱- حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔
- ۲- حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔
- ۳- حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔
- ۴- حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔

☆ نواسے نواسیاں :


- حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے :
- ۱- حضرت علی رضی اللہ عنہ
  - ۲- لڑکا، نام معلوم نہیں۔
  - ۳- حضرت امامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔
- حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے :
- ۱- حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔
- حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے :
- کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

○ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے :

- ۱- حضرت حسن رضی اللہ عنہ
- ۲- حضرت حسین رضی اللہ عنہ
- ۳- حضرت محسن رضی اللہ عنہ
- ۴- حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا
- ۵- حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا
- ۶- حضرت زینت رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔

وضاحت :

- ① یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی ذریت آپ کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے باقی چلی آ رہی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سادات بنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سادات بنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے مشہور ہے۔
- ② آل محمد صلی اللہ علیہ و سلم سے مراد وہ تمام لوگ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے پیروکار اور قہقہ ہیں، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْعَاقِبَةُ  
لِلْمُتَّقِينَ أَمَّا بَعْدُ :

زندگی میں وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور وقت کا دریا بڑی تیزی سے بہتا ہے، کہیں رکتا ہے، نہ تھمتا ہے۔ یہ وقت کی بڑی مہربانی ہے کہ مسلسل گزرتا چلا جاتا ہے اور یوں ہمیں زندگی میں آنے والے صدے اور ایسے سنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ گزرتا وقت دل کے زخموں کا بہترین مرہم ہے، اگر وقت رک جائے، تو شاید انسان کا دنیا میں زندہ رہنا محال ہو جائے ہر آدمی درد کی تصویر اور غم کی داستان نظر آنے لگے۔

چند سال قبل زندگی معمول کے نشیب و فراز کے ساتھ بڑی تیزی سے رواں دواں تھی کہ اچانک کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ دن کا چین اور رات کا سکون ختم ہو گیا۔ زندگی کے سارے معمولات درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ”کتاب الصلاة“ زیر ترتیب تھی۔

آج سوچتا ہوں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ ان دنوں مجھ جیسے کم علم اور بے بضاعت انسان سے یہ سارا کام کیسے ہو گیا؟ امر واقعہ یہ ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع و تدوین کی مصروفیت نے مجھے اس طرح اپنے اندر جذب کئے رکھا کہ باہر کی دنیا میں ہونے والے تمام شور و شر اور ہنگامہ خیز واقعات میرے لئے ثانوی حیثیت اختیار کر گئے اور یوں نہ صرف یہ کہ بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہا بلکہ پروگرام کے مطابق کام میں بھی کوئی قابل ذکر تعطل پیدا نہ ہوا۔ اگر ”کتاب الصلاة“ کی مصروفیت نہ ہوتی تو یقیناً آج میری زندگی کا نقشہ بہت ہی مختلف ہوتا۔ گویا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا مجموعہ زندگی کے انتہائی کٹھن اور دشوار گزار سفر میں میرا سب سے بڑا تمکسار اور محسن ثابت ہوا۔ میرا ایمان ہے کہ میری تمام تر لغزشوں گناہوں اور سیہ کاریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور احسان محض درود شریف کے فضائل اور برکات کا نتیجہ ہے جو

احادیث پڑھنے اور لکھنے کے دوران بار بار سید المرسلین امام الملتقین رحمۃ اللعالمین شفیح المذنبین ہادی برحق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اسم مبارک کے ساتھ زبان پر آتا ہے۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کتنی سچی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے کعب! اگر تم اپنی ساری دعا کا وقت مجھ پر درود بھیجنے کے لئے وقف کر دو تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے سارے دکھوں اور غموں کے لئے کافی ہوگا۔ (ترمذی شریف)

اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے کلام پاک کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے :

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاۗءٌ ﴾

اے محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کہہ دیجئے اہل ایمان کے لئے تو یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی۔

بلا تامل یہی بات کلام رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ یہ اہل ایمان کے لئے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی۔ حضرت امام راموی رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے تو فرماتے۔ ”مجھے حدیث پڑھ کر سناؤ کہ اس میں شفا ہے۔“ برصغیر پاک و ہند میں خانوادہ شاہ ولی اللہ کی دینی خدمات سے کون واقف نہیں۔ ان کے والد گرامی شاہ عبدالرحیم فرمایا کرتے تھے۔ ”خدمت دین کی جتنی بھی سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے، وہ سب درود شریف کی برکتوں سے حاصل ہوئی ہے۔“

علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول البدیع میں متعدد محدثین کرام کے خواب تحریر فرمائے ہیں جن کے مطابق بعض محدثین کرام کی مغفرت ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ احادیث لکھتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے اسم مبارک کے ساتھ درود پڑھایا لکھا کرتے تھے۔

احادیث رسول صلی اللہ علیہ و سلم اور درود شریف کے فیوض و برکات کے ذاتی مشاہدے کا احساس ہوتے ہی میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ”کتاب الطہارۃ“ کے بعد ”کتاب اتباع السنہ“ ترتیب دینے سے قبل ”کتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم“ (درود شریف کے مسائل) ترتیب دوں گا۔ الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے میری خواہش اور ارادہ پورا فرمایا کتاب کی تمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہیں اور خامیاں میری کوتاہیوں اور لغزشوں کا۔

## رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی اور سلام کا جواب

صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں سلام کہنے والوں کو جواب دیتے ہیں۔

قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا اور جواب دینا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت اسی طرح واقع ہو چکی ہے جس طرح عام انسانوں پر واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ”موت“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾

”اے محمد! آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ (کافر اور مشرک) بھی مرنے والے ہیں۔“

(سورۃ زمر، آیت نمبر ۳۰)

سورۃ آل عمران میں ارشاد مبارک ہے۔

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

”اور محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول بھی گذر چکے ہیں پھر کیا اگر وہ مرجائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟“

(آیت نمبر ۱۳۴)

سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإَيْنَ مَتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾

”اے محمد! ہمیشہ کی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لئے نہیں رکھی اگر تم مر گئے تو کیا یہ (کافر اور مشرک) ہمیشہ زندہ رہیں گے۔“ (آیت نمبر ۳۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

کے خطبہ کے یہ الفاظ: «مَنْ كَانَ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ»

تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہئے کہ محمد پر موت واقع ہو چکی

ہے۔ (بحوالہ بخاری شریف)

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد جسد اطہر کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی اور منوں مٹی کے نیچے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ لہذا یہ بات کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم پر موت واقع ہو چکی ہے، البتہ آپ کی برزخی زندگی انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء اور تمام صلحاء کے مقابلہ میں زیادہ کامل ہے۔ برزخی زندگی کے بارے میں یہ بات یاد رہنی چاہئے کہ یہ زندگی نہ تو موت سے پہلے والی دنیاوی زندگی کی طرح ہے نہ ہی قیامت قائم ہونے کے بعد والی زندگی جیسی ہے بلکہ اس کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں اس کی صراحت فرمادی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَاتٌ بَلْ أَعْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں (ان کی زندگی کا) شعور نہیں۔ (البقرہ : ۱۵۴)

اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی کے بارے میں جب پوری قطعیت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمادی ہے کہ اس کی کیفیت کے بارے میں تمہیں شعور نہیں، تو پھر ہمیں اس بارے میں عقل اور قیاس کے گھوڑے دوڑانا نہیں چاہئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم جب سلام سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر وہ زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف کیوں ہے؟ یا اگر آپ سلام سنتے ہیں تو باقی گفتگو کیوں نہیں سنتے وغیرہ؟ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا کچھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسے من و عن تسلیم کر لیں اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے اس میں کھوج لگانے اور کریدنے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کا یہی محفوظ ترین راستہ ہے۔

## ایک باطل عقیدے کی تردید

مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ زمین میں گشت کرتے رہیں اور جو بھی آپ پر درود و سلام بھیجے، اسے آپ صلی اللہ علیہ و سلم تک پہنچاتے رہیں۔ (احمد،

نسائی، دارمی وغیرہ) اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہر وقت اپنی قبر مبارک میں موجود رہتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم واقعی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو پھر فرشتے مقرر کرنے اور آپ تک درود و سلام پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟

بعض احادیث میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ درود و سلام فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو علم غیب نہیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو فرشتوں کو یہ بتانے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ درود و سلام بھیجنے والا کون ہے؟

## غیر مسنون درود و سلام

یوں تو دین اسلام میں بدعات کا اضافہ اب روز مرہ کا معمول بن چکا ہے لیکن اذکار و وظائف میں خصوصاً اتنی زیادہ خود ساختہ اور غیر مسنون چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ مسنون ادعیہ و اذکار طاق نسیاں بن کر رہ گئے ہیں۔ دیگر خود ساختہ اور غیر مسنون اذکار و وظائف کی طرح درود و سلام میں بھی بہت سے خود ساختہ اور غیر مسنون درود و سلام رائج ہو چکے ہیں۔ مثلاً درود تاج، درود لکھی، درود مقدس، درود اکبر، درود ماہی، درود تینینا وغیرہ۔ ان میں سے ہر درود کے پڑھنے کا طریقہ اور وقت الگ الگ بتایا گیا ہے اور ان کے فوائد (جو کہ زیادہ تردیناوی ہیں) کا بھی الگ الگ تذکرہ کتب میں لکھا گیا ہے۔ مذکورہ درودوں میں سے کوئی ایک درود بھی ایسا نہیں جس کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے ثابت ہوں۔ لہذا انہیں پڑھنے کا طریقہ اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد از خود باطل ٹھہرتے ہیں۔

شریعت میں خود ساختہ اور غیر مسنون افعال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ارشادات ہر مسلمان کی نگاہ میں رہنے چاہئیں تاکہ اس مختصر اور انتہائی قیمتی زندگی میں خرچ کیا گیا وقت، پیسہ اور دیگر صلاحیتیں قیامت کے دن اکارت اور ضائع نہ جائیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے۔ ”جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد

شریعت میں موجود نہیں وہ کام مردود ہے۔“ بحوالہ بخاری و مسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بدعت (یعنی خود ساختہ عبادت) گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ (ابو نعیم) اس ضمن میں بخاری اور مسلم کا روایت کردہ درج ذیل واقعہ بڑا سبق آموز ہے کہ تین آدمی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ انہیں بتایا گیا تو ان میں سے ایک نے کہا۔ ”میں آئندہ ہمیشہ پوری رات قیام کیا کروں گا اور کبھی آرام نہیں کروں گا۔“ دوسرے نے کہا۔ ”میں آئندہ مسلسل روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا۔“ تیسرے نے کہا۔ ”میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور عورتوں سے الگ رہوں گا۔“ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ”اللہ کی قسم! میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پرہیزگار ہوں، رات قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کئے ہیں۔ لہذا یاد رکھو، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“

قارئین کرام! اندازہ فرمائیے، تینوں حضرات نے اپنی دانست میں زیادہ نیکی کرنے اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان کا طریقہ چونکہ خود ساختہ اور غیر مسنون تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی باتوں پر سخت اظہار ناراضگی فرمایا۔ یہی معاملہ درود و سلام کا ہے۔

خود ساختہ اور غیر مسنون درود و سلام پر محنت اور ریاضت بے کار اور عبث ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنے۔ لہذا وہی درود و سلام پڑھئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ثابت ہے۔ یاد رکھئے! رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک لفظ دنیا کے سارے اولیاء اور صلحاء کے بنائے ہوئے کلمات خیر سے زیادہ افضل اور قیمتی ہے۔

درود شریف کے مسائل لکھتے ہوئے احادیث کے انتخاب میں صحیح اور حسن کا معیار برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ تاہم اگر کوئی حدیث ضعیف ہو تو اس کی نشاندہی پر ہم ممنون احسان ہوں گے۔

کتاب کی تیاری میں ہمارے فاضل دوست جناب حافظ عبدالرحمن صاحب (وزارہ الدفاع) نے

قبیل قدر حصہ لیا۔ والد محترم حافظ محمد ادریس صاحب کیلانی نے مسودہ کی نظر ثانی کے ساتھ ساتھ کتابت اور طباعت کے سارے کام کی نگرانی بھی فرمائی ہے۔ والد محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ جیسے مایہ ناز علمائے کرام کے ممتاز تلامذہ میں سے ہیں اور اپنے وقت کے بہترین خطاط (خوشنویس) بھی رہے ہیں۔ تلاش معاش کے زمانہ میں پورا صحاح ستہ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ) نیز مشکوٰۃ الصالح اور قرآن مجید کی کئی تفاسیر اپنے ہاتھ سے کتابت کر چکے ہیں۔ مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تالیف تعلیقات سلفیہ (نسائی شریف کی شرح) کی کتابت کے لئے بطور خاص محترم والد صاحب کا انتخاب فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے محترم والد صاحب پر خاص فضل و کرم کیا ہے کہ انہیں اٹھاون برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔

موصوف نے کتابت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام تو حصول علم کے فوراً بعد اپنے آبائی گاہوں (حضرت کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ) میں شروع کر دیا تھا لیکن گذشتہ پندرہ بیس سال سے الحمد للہ فکر معاش سے بالکل آزاد ہو کر یہ فرض انجام دے رہے تھے۔ جب سے حدیث پہلی کیشنز کی مطبوعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے مسودوں کی نظر ثانی، کتابت، طباعت اور اس کے بعد اس کی تقسیم و ترسیل کی تمام تر ذمہ داریاں بھی موصوف نے اپنی دیگر مصروفیات میں شامل کر لی ہیں، عارمین کرام! دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ والد محترم جناب حافظ محمد ادریس کیلانی صاحب کو صحت اور زندگی عطا فرمائے تاکہ ان کی سرپرستی میں کتاب و سنت کی اشاعت کے مجوزہ منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکے۔ نیز ان تمام حضرات کے حق میں بھی دعا فرمائیے جو محض رضائے الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے سے اپنا قیمتی وقت اپنی بہترین صلاحیتیں اور رزق حلال، کتاب و سنت کی اشاعت میں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو دنیا اور آخرت میں

محترم والد حافظ محمد ادریس کیلانی رحمہ اللہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۹۲ء کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

عارمین کرام سے درخواست ہے کہ وہ مرحوم کے لئے مغفرت اور بلندی درجات کی دعائیں فرمائیں۔ مؤلف۔

اپنے فضل و کرم سے نوازے اور روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ


اے ہمارے پروردگار! ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ تو یقیناً ہر بات سننے اور جاننے والا ہے۔  
اے ہمارے پروردگار! ہم پر نظر کرم فرما تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

محمد اقبال کیلانی عفا اللہ عنہ

جامعہ ملک سعود الریاض۔ سعودی عرب

فون نمبر : دفتر 4676412 گھر 4065632






ان الله وملكته يصلون  
على النبي يا ايها الذين  
امنوا صلوا عليه وسلموا


تسليما

(۲۴ : ۵۶)

اللہ نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے نبی کے لئے دعائے رحمت  
کرتے ہیں۔ اے لوگو، جو ایمان لاتے ہو! تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔

(سورۃ احزاب: آیت نمبر ۵۶)






اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  
حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  
حَمِيدٌ مَجِيدٌ



## مَعْنَى الصَّلَاةِ عَلٰی النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### درود شریف کا مطلب

اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے اور فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے۔

سُئِلَهُ ۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمَلَائِكَةُ تَصَلِّيُ عَلَيَّ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَصَلَاةِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ توٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ ”یا اللہ اس کو بخش دے“ اس پر رحم فرما۔“ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيَّ مِثْمِثًا الصُّفُوفِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صف کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔“ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

(۱) کتاب الصلاة باب الحدث في المسجد.

(۲) صحيح سنن أبو داود للالباني الجزء الأول رقم الحديث ۶۲۸.

## الصَّلَاةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ

### تمام انبیاء پر درود بھیجنے کا حکم

درود صرف انبیائے کرام پر ہی بھیجنا چاہئے۔

مسئلہ ۲

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ وَلَكِنْ يُدْعَى لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالِاسْتِغْفَارِ. رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (۱)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ”نبی کے علاوہ کسی پر درود نہ بھیجو البتہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے استغفار کرو۔“ اسے اسماعیل قاضی نے ”فضل الصلاة على النبي“ میں روایت کیا ہے۔



(۱) فضل الصلاة على النبي للالباني رقم الحديث ۷۵ .

## فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

### درود شریف کی فضیلت

**مسئلہ ۳** ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، دس گناہ معاف فرماتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے۔

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (۱)

(صحیح)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا۔“ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۴** کثرتِ درود قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (۲)

(صحیح)

(۱) صحیح سنن النسائی للالبانی الجزء الأول رقم الحدیث ۱۲۳۰.

(۲) مشکاة المصابیح للالبانی الجزء الأول رقم الحدیث ۹۲۳.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔“ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لئے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث بنے گا۔

مسئلہ ۵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَوْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (۱)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ (جنت میں بلند مقام) مانگا اس کے لئے میں قیامت کے روز ضرور سفارش کروں گا۔“ اسے اسماعیل قاضی نے ”درود کے فضائل“ میں روایت کیا ہے۔

درود شریف گناہوں کی مغفرت اور تمام دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

مسئلہ ۶

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ. قُلْتُ: الرَّبْعَ. قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ: إِذَا تَكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (۲)

(حسن)

(۱) فضل الصلاة على النبي للالباني رقم الحديث ۵۰.

(۲) صحيح سنن الترمذي للالباني الجزء الثاني رقم الحديث ۱۹۹۹.

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لئے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جتنا تو چاہے“ میں نے عرض کیا ایک چوتھائی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا ”جتنا تو چاہے“ لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لئے اچھا ہے۔“ میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا۔ ”جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لئے اچھا ہے۔“ میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جتنا تو چاہے“ لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لئے بہتر ہے۔“ میں نے عرض کیا۔ میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لئے وقف کرتا ہوں۔“ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لئے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔“ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

### مسئلہ ۷

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ: فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَالِكَ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي: أَلَا أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> (صحيح)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے۔ بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ”کیا بات ہے؟“ میں نے بات بتائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ”اے محمد! کیا میں آپ کو ایک

(۱) فضل الصلاة على النبي للالباني رقم الحديث ۷.

بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا، میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔“ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۸** دس مرتبہ صبح، دس مرتبہ شام درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمَسِّي عَشْرًا أَذْرَكَتَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ (۱)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے دس مرتبہ صبح، دس مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روزِ قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔“ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۹** درود قبولیتِ دعا کا باعث ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي وَالنَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالشَّاءِ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرما تھے۔ میں (دعا کے لئے) بیٹھا، تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر نبی اکرم پر درود بھیجا، پھر اپنے لئے دعا کی، تو نبی اکرم نے فرمایا (اس طرح) اللہ سے مانگو ضرور دیئے جاؤ گے۔ (دوبارہ فرمایا) اللہ سے مانگو دیئے جاؤ گے۔“ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۱۰** درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے

(۱) صحیح الجامع الصغیر للالبانی رقم الحدیث ۶۲۳۳۔

(۲) صحیح سنن الترمذی للالبانی الجزء الأول رقم الحدیث ۴۸۶



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا“۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

### مسئلہ ۱۱

ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک مرتبہ سلام بھیجنے والے پر دس مرتبہ سلام بھیجتا ہے

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشَيْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشَيْرَى فِي وَجْهِكَ فَقَالَ: «إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ ﷺ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (۲)

(حسن)

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتمتا رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا۔ آج ہم آپ کے چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ”میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا آپ کے لئے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے، میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے، میں اس کو دس مرتبہ سلام کہوں“؟ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ ۱۲ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ». رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (۳)

(صحیح)

(۱) کتاب الصلاة باب الصلاة على النبي.

(۲) صحیح سنن النسائی للالبانی الجزء الأول رقم الحدیث ۱۲۱۶

(۳) فضل الصلاة على النبي للالبانی رقم الحدیث ۱۱.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھے گا“۔ اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاة على النبي میں روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۱۳** جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيَقِلَّ أَوْ لِيَكُنْزًا». رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (۱) (حسن)

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اب جو چاہے کم پڑھے جو چاہے زیادہ پڑھے“ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۱۴** رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (۲) (حسن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں (اس سلام کا) جواب دیتا ہوں“۔ اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

**وضاحت :** مختلف احادیث میں درود پڑھنے کا اجر اور ثواب مختلف ہے جس کا انحصار پڑھنے والے کے خلوص، ایمان، تقویٰ اور نیت پر ہے۔

(۱) مشکاة المصابیح للالبانی الجزء الأول رقم الحدیث ۹۲۵.

(۲) فضل الصلاة على النبي للالبانی رقم الحدیث ۶.

## أَهْمِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

### درود شریف کی اہمیت

مَسْئَلَةٌ ۱۵

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُوَاهُ الْكَبِيرَ فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (۱)

(صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ سوا ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ سوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا“۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

مَسْئَلَةٌ ۱۶

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کسی

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْضَرُوا الْمِنْبَرَ

(۱) صحیح سنن الترمذی للالبانی الجزء الثالث رقم الحدیث ۲۸۱۰۔

فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ قَالَ: آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: آمِينَ،  
ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنِ الْمُنْبَرِ قَالَ: فَقُلْنَا  
لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ. قَالَ: إِنَّ  
جِبْرِيلَ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ،  
فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بَعْدَ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: آمِينَ.  
فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّلَاثَةَ قَالَ: بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبُوَيْهِ الْكَبِيرَ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ  
الْجَنَّةَ. فَقُلْتُ: آمِينَ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ (۱)

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لانے کا حکم دیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے، تو فرمایا ”آمین“ پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا ”آمین“ پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا ”آمین“۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا ”آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا۔ ”ہلاکت ہے اس آدمی کے لئے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے جواب میں کہا۔ ”آمین“ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو، اس آدمی کے لئے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، لیکن وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے جواب میں کہا۔ ”آمین“ جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لئے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بددھاپے کی عمر میں پایا، لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا۔ ”آمین“۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا بخیل ہے

مسئلہ ۱۷

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ  
عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (۲)

(صحیح)

(۱) فضل الصلاة على النبي للالباني رقم الحديث ۱۹.

(۲) صحيح سنن الترمذي للالباني الجزء الثالث رقم الحديث ۲۸۱۱.

حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، وہ بخیل ہے۔“ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (۱)

(صحیح)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔“ اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاة على النبي میں روایت کیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا قیامت کے دن باعثِ حسرت ہوگا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّوا عَلَيَّ النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ وَالْخَطِيبُ. (۲)

(صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لئے باعثِ حسرت ہوگی خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں ہی جنت میں چلے جائیں۔“ اسے احمد، ابن حبان، حاکم اور خطیب نے روایت کیا ہے۔

(۱) فضل الصلاة على النبي للالباني رقم الحديث ۳۷.

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني الجزء الأول رقم الحديث ۷۶.

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا جنت سے محرومی کا

مسئلہ ۱۹

باعث ہوگا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِيئَةً طَرِيقَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔“ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

جس دعا سے قبل درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی

مسئلہ ۲۰

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ دُعَاءٍ مَخْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ». رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ (۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔“ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔



(۱) صحیح سنن ابن ماجہ للالبانی الجزء الأول رقم الحدیث ۷۴۰.

(۲) سلسلہ الأحادیث الصحیحة للالبانی الجزء الخامس رقم الحدیث ۲۰۳۵.

## الصَّلَاةُ الْمَسْنُونَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

### درود شریف کے مسنون الفاظ

مسئلہ ۲۱

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ درود کے الفاظ درج ذیل احادیث میں دئے گئے ہیں

① عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (۱)

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟“ آپ نے فرمایا ”یوں کہو! یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج رضی اللہ عنہن پر اور آپ کی اولاد پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت بھیجی۔ یا اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج رضی اللہ عنہن پر اور آپ کی اولاد پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تو بے شک بزرگ اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔“ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

② عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيتِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِيهَا لِي! فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ

(۱) کتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا

عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱)

حضرت عبدالرحمن بن ابویلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دینے دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟“ میں نے کہا ”کیوں نہیں ضرور دو“۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو بتا دیا ہے ہم آپ پر اور اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ان الفاظ میں درود بھیجا کرو۔ یا اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت بھیجی ہے، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لئے ہے۔ یا اللہ! محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، تو بزرگ ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔“ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

(۳) عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَا، وَأَمَا الصَّلَاةُ فَأَخْبَرْنَا بِهَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى وَدَدْنَا أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي سَأَلَهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (۲)

(حسن)

(۱) کتاب الانبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا

(۲) فضل الصلاة على النبي للالباني رقم الحديث ۵۹.



حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا۔ اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ و سلم)! آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو معلوم ہے۔ البتہ درود بھیجنے کا طریقہ ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے خواہش کی کہ یہ آدمی ایسا سوال نہ کرتا، تو اچھا تھا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔ ”جب تم مجھ پر درود بھیجو، تو کو یا اللہ امی نبی محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی اور امی نبی محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، تو یقیناً اپنی ذات میں آپ محمود اور بزرگ ہے۔“ اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاة على النبي میں روایت کیا ہے۔

(۴) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَيَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (۱)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟“ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ یہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے سوال نہ ہی کرتا، تو اچھا تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ”یوں کہا کو یا اللہ! تمام جہانوں میں محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح

(۱) کتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد.

تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تو یقیناً بزرگ اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ (اس کے بعد آپ نے فرمایا) اور سلام کا طریقہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تم جانتے ہو۔“ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

⑤ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذَا السَّلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (۱)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ پر سلام کا طریقہ تو معلوم ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ”یوں کہو یا اللہ! اپنے بندے اور رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اسی طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر نازل فرمائیں۔ محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر نازل فرمائیں۔“ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

⑥ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَفَيْتَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ تُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (۲)

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے ”میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں؟ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے۔ آپ

(۱) کتاب التفسیر باب قول الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

(۲) کتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد.

پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یوں کہو۔ یا اللہ! محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر نازل فرمائیں۔ بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور بزرگ ہے۔ یا اللہ! محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تویقیناً محمود اور مجید ہے۔“ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

⑤ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ<sup>(۱)</sup> (صحیح)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا۔ ”اے اللہ کے رسول آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا یوں کہو ”اے اللہ! اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح اپنی رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح اپنی برکتیں نازل فرما جس طرح ابراہیم پر تو نے اپنی برکتیں نازل فرمائیں“ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

⑧ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ<sup>(۲)</sup> (صحیح)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، درود شریف کا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا: یوں کہو ”اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر اپنی رحمتیں اسی طرح نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں یا اللہ!

(۱) صحیح سنن النسائي للالباني الجزء الأول رقم الحديث ۱۲۲۶.

(۲) صحیح سنن ابن ماجه للالباني الجزء الأول رقم الحديث ۷۳۶.

محمد اور آل محمد پر اسی طرح اپنی برکتیں نازل فرما جس طرح ابراہیم پر تو نے اپنی برکتیں نازل فرمائیں۔“  
اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

⑨ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. (۱)

(صحیح)

حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟۔ آپ نے فرمایا۔ یوں کہو ”اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر اسی طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر تمام جہانوں میں برکتیں نازل فرمائیں۔ یقیناً تو اپنی ذات میں آپ محمود اور بزرگ ہے۔“  
اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

⑩ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ».

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (۲)

(صحیح)

حضرت زید بن خارجه رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے (درود کے بارے میں) سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اور دعائیں اسے لازم کر لو اور یوں کہو۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔“ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

(۱) صحیح سنن ابن ماجہ الجزء الأول رقم الحدیث ۷۳۸.

(۲) صحیح سنن النسائي للالباني الجزء الأول رقم الحدیث ۱۲۲۵.

(۱۱) عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ وَقُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱)

حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زید بن خارجه رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ”ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: مجھ پر درود بھیجنے کے لئے یہ الفاظ کہو۔ ”یا اللہ! محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور بزرگ ہے۔“ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے لئے مسنون

مسئلہ ۲۲

الفاظ درج ذیل ہیں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلْتَقَتِ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قَلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (۲)


حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”اللہ ہی سلام ہے، جب تم نماز پڑھو، تو کہو۔ تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور

(۱) فضل الصلاة على النبي للالباني رقم الحديث ۶۸.

(۲) كتاب الصلاة باب التشهد في الآخرة

برکتیں ہوں ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو یہ الفاظ اللہ کے تمام نیک بندوں کو پہنچیں گے چاہے وہ آسمان میں ہوں یا زمین میں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔“ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

درود تنجینا، درود مقدس، درود تاج، درود لکھی اور درود اکبر  
(چاروں حصے) کے الفاظ غیر مسنون ہیں



## مَوَاطِنُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

### درود شریف پڑھنے کے مواقع

نماز ختم کرنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے

مسئلہ ۲۴

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَجَلْ هَذَا نَمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لغيرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ مَا شَاءَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (۱)

حضرت فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا: ”اس نے جلدی کی“ پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا: ”جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے۔ پھر (تشمید میں) اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے۔“ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے

مسئلہ ۲۵

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبَّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ

(۱) صحيح سنن الترمذي الجزء الثالث رقم الحديث ۲۷۶۷.

التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخَلِّصِ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (۱).

حضرت ابوامامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھنا (پھر دوسری تکبیر کے بعد) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پھر (تیسری تکبیر کے بعد) خلوص دل سے میت کے لئے دعا کرنا اور ان تکبیرات میں قرأت نہ کرنا (چوتھی تکبیر کے بعد) آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔

اذان سننے کے بعد دعائے مانگنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے

مسئلہ ۲۶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۲).

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ”جب مؤذن کی اذان سنو، تو وہی کچھ کہو، جو مؤذن کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہذا جو آدمی میرے لئے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔“ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۱) مسند شافعی الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز رقم الحديث ۵۸۱.

(۲) کتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن.



## اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے

مسئلہ ۲۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا وَلَا تَجْعَلُوا بِيُوتِكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱)

(صحیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ”میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو۔ تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے“ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ بِي مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِي فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَكُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فُلَانًا ابْنَ فُلَانٍ صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ». رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ (۲)

(حسن)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: ”مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم! فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے۔“ اسے دیلمی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (۳)

(صحیح)

(۱) فضل الصلاة على النبي للالباني رقم الحديث ۲۰.

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني الجزء الرابع رقم الحديث ۱۵۳۰.

(۳) صحيح سنن النسائي للالباني الجزء الأول رقم الحديث ۱۲۱۵.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لئے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں“ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۲۸** جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا چاہئے۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلُّ عَلَيَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ (۱)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبُضَ، وَفِيهِ النَّفْحَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ». قَالَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ يَقُولُونَ بَلَيْتَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (۲) (صحيح)

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سب دنوں میں سے جمعہ کا دن افضل ہے اسی روز آدمی علیہ السلام پیدا کئے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز صور پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا، لہذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول

(۱) صحيح الجامع الصغير الجزء الأول رقم الحديث ۱۲۱۹.

(۲) صحيح سنن أبو داود للالباني الجزء الأول رقم الحديث ۹۲۵.

صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی یا یوں کہا کہ آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہو گا تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیئے ہیں۔“ اسے ابو داؤد نے روایت کیا

۴-

**مسئلہ ۲۹** دعاماگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجَلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ اذْغُهُ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّهَا الْمُصَلِّي اذْغُ تُحِبُّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (۱)

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی (مسجد میں) آیا، نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا: ”یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے آدمی تو نے (دعاماگنے میں) جلدی کی جب نماز پڑھو اور دعا کے لئے بیٹھو تو اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کرو پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لئے دعا کرو۔“ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی (نماز کے بعد) اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ نے فرمایا: ”اے نمازی! دعا کرتی دعا قبول کی جائے گی۔“ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۳۰** گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لئے درود پڑھنا مسنون ہے

**مسئلہ ۳۱** تکلیف، مصیبت، رنج اور غم کے موقع پر درود پڑھنا مسنون ہے

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ

(۱) صحيح سنن الترمذي للالباني الجزء الثالث رقم الحديث ۲۷۶۵.

عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: مَا شِئْتُ. قُلْتُ: الرَّبْعَ. قَالَ: مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: فَالْنِّصْفَ. قَالَ: مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ: إِذَا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُعْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ<sup>(۱)</sup>

(حسن)  
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لئے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جتنا تو چاہے“ میں نے عرض کیا ایک چوتھائی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا ”جتنا تو چاہے“ لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لئے اچھا ہے۔“ میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا۔ ”جتنا تو چاہے“ لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لئے اچھا ہے۔“ میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جتنا تو چاہے“ لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لئے بہتر ہے۔“ میں نے عرض کیا۔ میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لئے وقف کرتا ہوں۔“ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لئے کافی ہو گا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہو گا۔“ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے، پڑھتے یا لکھتے

مسئلہ ۳۲

وقت درود پڑھنا مسنون ہے

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَخِيلُ الَّذِي مَنَ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ<sup>(۲)</sup>

حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے۔“ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

(۱) صحیح سنن الترمذی للالبانی الجزء الثاني رقم الحدیث ۱۹۹۹.

(۲) صحیح سنن الترمذی للالبانی الجزء الثالث رقم الحدیث ۲۸۱۱.

مسئلہ ۳۳

مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا مسنون ہے

عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (۱) (صحيح)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے: «بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دے۔

جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے: «بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ»

اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لئے کھول دے۔

اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا مسنون ہے

مسئلہ ۳۴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ

(۱) صحيح سنن ابن ماجه للالباني الجزء الأول رقم الحديث ۶۲۵ .

الصَّلَاةَ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى<sup>(۱)</sup> (حسن)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، سلام ہو رسولوں پر اور تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہی سزاوار ہے۔ اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۳۵** ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مسنون ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ<sup>(۱)</sup> (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کچھ لوگ مل کر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں۔ تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لئے باعث وبال ہوگی اگر اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو معاف فرمائے۔“ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

**مسئلہ ۳۶** ہر صبح اور شام درود پڑھنا مسنون ہے

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمَسِّي عَشْرًا أَدْرَكَتُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ<sup>(۱)</sup> (حسن)

(۱) عدة الحصن الحصين رقم الحديث ۲۱۳.

(۲) صحيح سنن الترمذي للالباني الجزء الثالث رقم الحديث ۲۶۹۱.

(۳) صحيح الجامع الصغير للالباني رقم الحديث ۶۲۳۳.

حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہو گی۔“ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

اذان سے قبل درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں

مسئلہ ۳۷

کسی بھی فرض نماز کے بعد با آواز بلند اجتماعی درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں

مسئلہ ۳۸

نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر با آواز بلند اجتماعی درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں

مسئلہ ۳۹



## الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ وَالْمَوْضُوعَةُ ضعیف اور موضوع احادیث

① عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ ثَمَانِينَ عَامًا، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَتَعَقِّدْ وَاحِدًا». رَوَاهُ الْخَطِيبُ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز اسی مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرمادے گا۔ عرض کیا گیا۔ ”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟“ آپ نے فرمایا کہ ”یا اللہ! اپنے امی نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما اور اسے ایک مرتبہ شمار کرو“ اسے خطیب نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : یہ حدیث گھڑی ہوئی (موضوع) ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ للالبانی جلد اول حدیث نمبر ۲۱۵۔

② عَنْ يُوسُفَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عُمَرَ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَإِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيبُهُ الْأَوْلُونَ وَآخِرُونَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى



آلِ اِبْرَاهِيمَ: رَوَاهُ اِسْمَاعِيْلُ الْقَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَي النَّبِيِّ ﷺ.

بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام یونس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے عبد اللہ بن عمر یا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا یوں کہا کرو۔ ”یا اللہ! سید المسلمین خاتم النبیین، امام المتقین اپنے بندے اور رسول نیکی کے امام بزرگی کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل، اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ قیامت کے روز انہیں مقام محمود عطا فرما تاکہ ان پر پہلے اور پچھلے سب لوگ رشک کریں۔ نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاة على النبي میں روایت کیا ہے۔

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ فضل الصلاة على النبي للالبانی حدیث ۶۱

(۳) «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً لَمْ يَبْقَ مِنْ ذُنُوبِهِ ذَرَّةٌ».

جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہ رہا۔

وضاحت : یہ حدیث گھڑی ہوئی (موضوع) ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ کشف الخفاء جلد نمبر ۲

حدیث نمبر ۲۵۱۶

(۴) «مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْاِسْلَامِ وَزَارَ قَبْرِي وَغَزَا غَزْوَةً وَصَلَّى عَلَيَّ فِي

الْمُقَدَّسِ لَمْ يَسْأَلْهُ اللهُ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ».

جس نے حالت اسلام میں حج کیا، اور میری قبر کی زیارت کی اور جہاد کیا پھر مجھ پر بیت المقدس میں درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس سے فرائض کے بارہ میں سوال نہیں کرے گا۔

وضاحت : یہ حدیث موضوع ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ سلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوعہ

جلد اول حدیث نمبر ۲۰۴

(۵) الصَّلَاةُ عَلَي النَّبِيِّ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرَّقَابِ. رَوَاهُ التَّيْمِيُّ.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اسے تیمی نے روایت کیا

ہے۔

وضاحت : یہ حدیث گھڑی ہوئی (موضوع) ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو المقاصد الحسنہ حدیث نمبر ۶۳۰

⑥ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ». رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نبی اکرم پر درود بھیجے بغیر وضو کیا اس کا وضو نہیں ہوا۔ اسے طہرائی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے۔ ملاحظہ ہو، ضعیف الجامع الصغیر للالبانی جلد نمبر ۶ حدیث نمبر ۶۳۳۱

⑦ «كُلُّ الْأَعْمَالِ فِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّهَا مَقْبُولَةٌ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ».

تمام اعمال میں سے بعض اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں بعض غیر مقبول، لیکن مجھ پر پڑھا گیا درود ہمیشہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے ملاحظہ ہو ”الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ“ باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ۱۰۳۱





# تفہیم السنۃ

## کے مطبوعہ حصے

- |  |   |
|--|---|
| ۱۔ کتاب التَّوْحِيدِ<br>اردو - سندھی - انگریزی | ۲۔ کتاب اتِّبَاعِ السُّنَّةِ<br>اردو - سندھی - انگریزی        |
| ۳۔ کتاب الطَّهَارَةِ<br>اردو - سندھی - تگلو    | ۴۔ کتاب الصَّلَاةِ<br>اردو - سندھی - تگلو                     |
| ۵۔ کتاب الْجَنَائِزِ<br>اردو - سندھی - تگلو    | ۶۔ کتاب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ<br>اردو - سندھی - انگریزی |
| ۷۔ کتاب الدَّعَاءِ<br>اردو - سندھی             | ۸۔ کتاب الزَّكَاةِ<br>اردو - سندھی                            |
| ۹۔ کتاب الصِّيَامِ<br>اردو - سندھی - انگریزی   | ۱۰۔ کتاب الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ<br>اردو                       |



- |  |   |
|--|---|
| ۱۔ کتاب التَّوْحِيدِ<br>تگلو - بنگال           | ۵۔ کتاب الزَّكَاةِ<br>انگریزی                     |
| ۲۔ کتاب اتِّبَاعِ السُّنَّةِ<br>انگریزی - تگلو | ۶۔ کتاب الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ<br>انگریزی - سندھی |
| ۳۔ کتاب الطَّهَارَةِ<br>فرائسی                 | ۷۔ کتاب الْجِهَادِ<br>اردو                        |
| ۴۔ کتاب الصَّلَاةِ<br>انگریزی - ہندی           | ۸۔ کتاب النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ<br>اردو - انگریزی |

زیر طبع  
حصے



مکتبہ ابن القیم



20160012

Qrs 10